



دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارمز کو چالو حالت میں رکھیں

چالو حالت والے دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارمز آپ اور آپ کے عزیزوں کو وقت دیتے کسی گڑبڑی کا انتباہی اشارہ دے کر زندگیاں بچاتے ہیں۔ آگ تیزی سے پھیلتی ہے اور کاربن مونو آکسائیڈ خاموش قاتل ہے۔

چالو الارمز آپ کے نکلنے کے منصوبے کا سب سے اہم جز ہیں۔

- درست قسم کا الارم رکھنا یقینی بنائیں۔ یہ ضروری ہے کہ الارمز انڈر رائٹرز لیباریٹریز (یو ایل) (Underwriters Laboratories, UL) کے ذریعہ منظور شدہ ہوں اور اس میں ان کے دور حیات تک قابل سماعت انتباہی الارم ہو۔ سبھی نئے اور بدلے ہوئے دھوئیں کے الارمز میں 10 سال کے لیے مہربند بیٹری لگی ہونی چاہیے جو کہ ناقابل تبدیلی ہو اور جسے نکالا نہ جاسکتا ہو۔
- دھوئیں کا الارم اور کاربن مونو آکسائیڈ (CO) الارمز دونوں (یا دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ الارم) ہی ہوں۔ ایک قسم کا الارم دوسرے کا بدل نہیں ہے۔
- اگر آپ کے الارم میں ابھی بھی قابل تبدیلی بیٹریاں لگی ہوں تو، انہیں ایک سال میں دوبار ضرور بدلیں۔ بیٹریاں تبدیل کرنے کی ایک بہترین یاددہانی یہ ہے کہ انہیں دن کی روشنی میں بجلی کی بچت والے ایام میں تبدیل کریں۔ جتنی جلدی ممکن ہو ان الارمز کو ایسے الارمز سے تبدیل کریں جن میں مہربند 10 سال والی بیٹریاں ہوں۔



10 سال والی بیٹری کے ساتھ مہربند الارم

الارم کی تنصیب

- جہاں آپ سوتے ہیں وہاں اور اپنے گھر کی ہر منزل پر بشمول تہ خانے میں الارمز نصب کریں۔
- الارمز کو چھت میں لگائیں، بہتر ہے کہ یہ کمرے کے مرکز میں ہو، لیکن دیوار سے چار انچ سے کم کی دوری پر نہ ہو۔ اگر الارم کو دیوار پر ہی لگانا ضروری ہو تو، اسے چھت سے چار اور 12 انچ کی دوری پر لگایا جانا چاہیے۔
- باہم مربوط الارمز لگانے پر غور کریں تاکہ جب ایک الارم بچے تو سبھی الارمز بجنے لگیں۔
- جن کو سماعت کی دشواری یا جو بھرے ہیں ان کے لیے خصوصی الارمز نصب کیے جانے چاہئیں۔
- چمکیلی روشنی اور بستر میں لرزش پیدا کرنے والے آلات دستیاب ہیں۔



الارم کا رکھ رکھاؤ

- ٹیسٹ بٹن دبا کر پابندی سے اپنے الارمز کی جانچ کریں۔
- ہر 10 سال پر یا جب الارم اس بات کا سگنل دین کہ اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور اسے تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہے تو اسے تبدیل کر دیں۔
- الارمز کو پابندی کے ساتھ جھاڑ پونچھ کر اور ویکومنگ کر کے انہیں صاف رکھیں۔

جب الارم بچے

- اگر CO الارم بجتا ہے تو، آپ اور آپ کے خاندان کو فوراً باہر نکل جانا چاہیے اور 911 پر کال کرنا چاہیے۔
- اگر دھوئیں کا الارم بجتا ہے تو، اپنے نکلنے کے منصوبے پر ضرور عمل کریں۔
- اگر الارم حادثاتی طور پر بجنے لگے تو، اسے ہش یا ری سیٹ بٹن دبا کر بند کر دیں۔ ہوا کو صاف کرنے کے لیے کھڑکیاں کھولیں اور ہوا نکاسی والے پنکھے چلا دیں۔
- ہاتھ روم کے بھاپ یا کھانا بنانے کے بھاپ کے سبب الارمز خود بخود آن ہوجاتے ہیں۔ اس الارم کو دوسری جگہ لگانے کے بارے میں غور کریں جو ناگہانی طور پر بجنے لگتے ہوں۔

حالیہ سالوں میں آگ سے ہونے والی 70% اموات ایسے گھروں میں ہوئی ہے جہاں کوئی چالو حالت میں دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ الارمز نہیں تھے۔

آگ کے سبب آپ کی موت کا خطرہ اسی وقت آدھا کم ہوجاتا ہے جب آپ کے گھروں میں دھوئیں/کاربن مونو آکسائیڈ الارمز لگائے جاتے ہیں۔

